

استدراک

ڈاکٹر عارف نوشاہی ☆

مقالہ: وزیر وزیری (گیارہویں صدی ہجری کے ایک تاتاری نژاد چینی شاعر کے حالات اور فارسی شاعری۔

فکر و نظر: جلد ۴۲، شماره ۲، شعبان - ذوالقعدہ ۱۴۲۵ھ / اکتوبر - دسمبر ۲۰۰۴ء

کمپیوٹر نے فائل بناتے وقت بعض جگہ دو مصرعوں کو یکجا کر دیا ہے جس سے اشعار پڑھنے میں الجھن ہوتی ہے۔ قارئین کی سہولت کے لیے یہاں اشعار کی صحیح صورت پیش کی جاتی ہے۔

صحیح صورت

صفحہ سطر

ای کوکہ بادشاہ عادل مثل تو کسی نبود قابل در الف و دو رفتی از جہانتو از شہر فنا بہ جاودان تو	۱۱-۱۳	۹۶
آنکہ او را اعتقادی نیست سگ زو بہتر است با خدا و با رسول و جملہ اصحاب رسول	۲۵-۲۶	۹۷
عثمان سیم ، چہارم شان شاہ صفدر است ہر چار را خلیفہ برحق بدان رھی	۱۸-۱۹	۹۸
رموز الحقائق بدان چند باب بقول بزرگان نہادم بنا	۹-۱۰	۱۰۰

صاحب معنی نگر در شعر من افسون من چون وزیری در غزل در سخن را سفته ام	۱۰	۱۰۳
بقدر سخن ارجمندی گرفت بہ جامی رسید آن می لعل فام	۲-۱	۱۰۵
بہ جام بلورین می صاف و احمر	۱۲	۱۰۶
عنوان ”مدیہ شعر“ کو مصرع سے الگ پڑھا جائے۔	۱۷	۱۰۶
عنوان ”مقطع“ کو مصرع سے الگ پڑھا جائے۔	۷	۱۰۸
عنوان ”مقطع“ کو مصرع سے الگ پڑھا جائے۔	۱۰	۱۱۲
خون در درون نافہ مشک سخن چہ بود؟ گر نیست قصد بردن دلہای عاشقان	۶-۵	۱۱۹
